

روزہ کا اصل مقصود ول کی صفائی اور خدا کا ہو رہتا ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنی اندر کی حالت پر نظر کرتا رہتا ہے تو کبھی اس کی حالت یہ تناضاکرتی ہے کہ وہ برابر روزہ رکھتا رہے۔ کبھی یہ کہ برابر ہے روزہ رہے۔ کبھی یہ کہ روزہ بھی رکھے اور ہے روزہ بھی رہے۔ جب آدمی اپنے دل پر نگاہ رکھے اور طریق آخرت پر چلنے کے لیے روزہ کی حد کو سمجھ لے تو دل کی بستری کے لیے دوا کی کوئی ترتیب ضروری نہ رہے گی۔ اسی معنی میں یہ حدیث ہے کہ کبھی رسول اللہ مسلم اتنے روزے رکھتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزہ نہ چھوڑیں گے، اور کبھی مسلم بے روزہ رہتے کہ لوگ کہتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے۔ کبھی رات کو اس قدر سوتے کہ لوگ سمجھتے کہ اب تجدید نہ پڑھیں گے، اور کبھی اتنا قائم لیل کرتے کہ کہا جاتا کہ اب آپ سوئیں گے ہیں۔

(احیاء العلوم، جلد اول۔ ترجمہ و ترتیب: خرم مراد)

### بعینہ: رسائل و مسائل

کرتا ہے۔ اگرچہ اس کا امکان ہے کہ نئے نئے بھرتی ہونے والوں پر اس ٹریننگ کا فوری اثر اصلاح اور ضعف کی ٹھکل میں ظاہر ہوتا ہو۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ فوری اثر نہیں بلکہ اس کا مشق اثر ہے۔ اس کا مستقل اثر یقیناً، اس کو صحیح طور پر برتنے کی ٹھکل میں، یعنی ہونا چاہیے کہ انسان کی بلاوت کم ہو، اس کی روح قوی ہو، اس کا دل توانا ہو، اس کی قوتِ ارادی مضبوط ہو، اس کی قوتِ برداشت بڑھ جائے، وہ جہادِ زندگانی اور جہادِ فتنی سنبھل اللہ کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے۔

(ایمن احسن اصلاحی، "تمہیر القرآن" جلد اول، ص ۳۲۰-۳۲۲)

### التحجج

فروری کی اشاعت میں رسائل و مسائل صفحہ نمبر ۳۳۰ پر "یعنی ۳۰ فیصد وہ آپ ادا کر دیجئے"۔ کی جائے "یعنی اڑھائی فیصد (یا ۳۰ داں حصہ) وہ آپ ادا کر دیجئے" پڑھا جائے۔